

## Psychology Fa Part 2 Online Test

Sr	Questions	Answers Choice
1	جنسی براسائی کا شکار زیادہ کون لوگ ہوتے ہیں	A. عورتی اور مرد B. مرد اور بچے C. عورتیں اور بچے D. ہر سب
2	بعض دور کرنے کی سب سے موثر تبدیر کون سی ہے	A. تعلیم B. میازرت C. تحفظ D. رابطہ و تعاون
3	بعض دور کرنے کی سب سے موثر تبدیر کون سی ہے	A. تعلیم B. میازرت C. تحفظ D. رابطہ و تعاون
4	نش کے عادی افراد نے کی کیفیت طاری کرنے کے لئے کیا کرتے ہیں	A. پیشہ پنچے کی کیسان مقدار استعمال کرتے ہیں B. رفہ رفہ نہ کی بکسل مقدار بڑھایے ہیں C. رفہ رفہ نہ کی مقدار کم کر دیتے ہیں D. ہر تمام بیانات درست ہیں
5	ساماجیت کا عمل کب سے ختم ہوتا ہے	A. نوجوانی پر B. بلوغت پر C. بڑھاپے میں D. موت پر
6	ساماجت کے عمل کی ابتداء کب سے ہوتی ہے	A. قبل از پیدائش B. پیدائش کے بعد سے C. بلوغت سے D. جوانی سے
7	بے تحاشا کھانا اور پھر ناموزن طریقے سے اس کی تلافی کرنا کون سا مرض ہے	A. کم خوری B. پر خوری C. binge eating D. purging
8	شیزوفرینیا کے مریض میں وابسے کس حس سے متعلق ہوتے ہیں	A. بصری حس B. سمعی حس C. لمسی حس D. تمام حواس سے
9	خواتین کا میں کس مرض کا تعلق صفاتی ستھرانی سے ہے	A. فربیبا B. تسلط امیز اچاری افعال C. براسائی D. شویش
10	طالب علم کو دوناپسندیدہ مضامین میں سے کسی ایک مضامون کو چتنا پڑے تو اس صورت حال کو کیا کہا جائے گا	A. حصول گزیزی تصادم B. دوپرا گزیزی تصادم C. دوپرا حوصلی تصادم D. کثیر حوصلی گزیزی تصادم
11	کس معیار کی روح سے اکثریت کا کردار نارمل ہوتا ہے	A. طبی معیار B. سماجی معیار C. اسلامی معیار D. شماریاتی معیار
12	بیانے کا بیان کردہ غیر مرکزیت کا تصور قوفی نشونام کے کس درجے میں پلایا جاتا ہے	A. ٹھوس عملی درجہ B. باضابطہ عملی درجہ C. قبل عملی درجہ D. حسی حرکی درجہ
13	نشونما نفیسیات کا دائرہ عمل کب سے شروع ہوتا ہے	A. پوغہ بنتے سے B. پیدائش کے بعد C. طولیت کے دور سے D. ان میں سے کوئی نہیں
14	انسانی جسم میں تبدیلی کا عمل مکمل ہونے پر رک جائے تو اسے کیا کہتے ہیں	A. بالیدگی B. نشونما C. پختنگی D. ان میں سے کوئی نہیں
15	زندگی کے واقعات جو کسی بھی فرد کو پیش آئے ہیں وہ ہوتے ہیں	A. ایک جیسے B. تو طرح کے C. مختلف D. ان میں سے کوئی نہیں

16

دیاو کو پیدا کرنے میں ابھ ترین وجہ ہے

17

جسمانی دیاو کا فوری نتیجہ ٹکراو یا صورت میں سامنے آتا ہے

زندگی مشکلات

- A. زندگی کی آسائیش
- B. زندگی کی تبدیلیاں
- C. زندگی میں ٹھہراو

A. فرار

- B. فراموشی
- C. فکر
- D. فراغت